



مجلس البحث والدراسات  
معدن فتوى  
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

سوال

باواز بند آمين كهنا

جواب



السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

میں نے ایک عالم کے بیان میں یہ حدیث سنی کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میرے امت میں ایسے لوگ پیدا ہونگے جو لوگوں کو اپنے امام اور راہبوں کی طرف بلاس گے اور لوگوں سے آمین خلف الامام کی وجہ سے حسد کریں گے یہ اس امت کے یہودی ہیں۔؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگرچہ اس کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے، اب دوبارہ وہی جواب ہم آپ کو ارسال کر رہے ہیں، امید ہے اسے محفوظ کر لیں گے۔

اس معنی کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، اس حوالے سے جو روایت ملتی ہے اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔

نبی کریم نے فرمایا:

”ما حدیث یهود علی شیء ما حدیث علی السلام والتائین“ (صحیح ابن ماجہ ص 697، الصحیح: 284، صحیح الترغیب والترہیب: 328/1)

یعنی یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا اسلام اور آمین کہنے پر کرتے ہیں۔

جس طرح یہاں اسلام سے جہر اسلام کہنا مراد ہے اسی طرح آمین سے آمین باواز بلند کہنا مراد ہے، اس لیے کہ یہودیوں کو سلام و آمین بالسر سے چڑ نہیں تھی بلکہ بالہجر سے چڑ تھی۔

حدامہ عنذی واللہ اعلم بالصواب

فتویٰ کمیٹی

محدث فتویٰ